



## انفرادی قسم کے رہائشی اجازت ناموں کی تجدید کیسے کریں (ΑΔΕΤ)

اپنے رہائشی اجازت نامے کی تجدید کے لیے آپ کو بین الاقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیے آزاد سیاسی پناہ کے یونٹ میں میعاد ختم ہونے سے تیس (30) کیلنڈر کے دن سے پہلے درخواست دینی ہوگی

اگر آپ پناہ گزین یا ضمنی تحفظ کے حقدار نہیں رہتے ہیں تو آپ کے رہائشی اجازت نامے کی تجدید نہیں کی جاسکتی ہے۔

### رہائشی اجازت نامے کی تجدید کے عمل میں 4 اقدامات شامل ہیں:

1. ای میل کے ذریعے بین الاقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیے آزاد سیاسی پناہ کے یونٹ میں تجدید کے لئے درخواست دیں
2. آپ کو ای میل کے ذریعے بین الاقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیے آزاد سیاسی پناہ کے یونٹ سے جواب موصول ہوتا ہے
3. پاسپورٹ دفتر (یا غیر ملکیوں کے دفتر) میں اضافی دستاویزات جمع کروائیں
4. ضلعی دفتر یا آزاد یونٹ سے اپنا نیا رہائشی اجازت ناما وصول کریں



1

ای میل کے ذریعہ بین الاقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیے آزاد سیاسی پناہ کے یونٹ میں تجدید کیلئے

درخواست دیں

✓ آپ کو بین الاقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیے آزاد سیاسی پناہ کے یونٹ کے درج ذیل ای میل پتے پر درخواست بھیجنی ہوگی :

[GAS.residencepermits@migration.gov.gr](mailto:GAS.residencepermits@migration.gov.gr)

- ✓ آپ [یہاں](#) آن لائن درخواست حاصل کر سکتے ہیں۔ یونانی اور انگریزی میں دستیاب ہے۔
- ✓ آپ کو یونانی پاسپورٹ سائز کی ڈیجیٹل تصویر بھی (2 MB) تک (منسلک کرنی ہوگی)۔
- ✓ آپ کو اپنے خاندان کے ہر ایک فرد کی ایک علیحدہ ای میل بھیجنے کی ضرورت ہوگی جس میں ایک علیحدہ درخواست اور ایک علیحدہ تصویر شامل ہوگی۔
- ✓ ای میل میں "مضمون" لازمی طور پر "Renewals" ہونا چاہئے اور اس کے ساتھ جو آپ کے پاس رہائشی اجازت نامے کا نمبر ہے وہ بھی اس مضمون میں ہونا چاہئے (مثال کے طور پر "Renewals\_P123456789")۔



[یہاں](#) تجدید کی درخواست جمع کروانے کے بارے میں تفصیلی ہدایات موجود ہیں۔ یہ ہدایات ان

زبانوں میں دستیاب ہیں: انگریزی ، عربی ، فارسی ، تگرینیا اور فرانسیسی۔



2

آپ کو ای میل کے ذریعہ بین الاقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیے آزاد سیاسی پناہ کے یونٹ سے جواب

موصول ہوتا ہے

- ✓ آپ کو اپنی درخواست کے لئے صحیح ای میل کاپتہ فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ آپ کو اگلے مراحل کو پورا کرنے کے لیے آن لائن ہدایات بھیجی جائیں گی۔
- ✓ پناہ کے ادارے کی طرف سے ای میل کے ذریعے آپ کو جواب بھیجا جائے گا اور جواب اس زبان میں ہوگا جسے آپ سمجھتے ہیں۔
- ✓ اس جواب میں معلومات ہیں کہ رہائشی اجازت نامے کی تجدید کیلئے ایک مثبت فیصلہ کیا گیا ہے اور اگلے اقدامات کے لئے ہدایات موجود ہیں
- ✓ یہ جواب آپ کو پولیس کے پاسپورٹ دفتر (یا غیر ملکوں کے دفتر) میں اضافی معاونی دستاویزات جمع کروانے کے لیے بھی ہوگا
- ✓ جواب میں خاص طور پر یہ بھی ہوگا کہ آپ کو کس مخصوص پاسپورٹ دفتر (یا غیر ملکوں کے دفتر) میں جانا ہوگا اور آپ کو اپنے ساتھ کیا لے کر جانا ہے۔

3

آپ کو اضافی معاونی دستاویزات پاسپورٹ دفتر (یا غیر ملکوں کے دفتر) میں جمع کروانے ہوں گے

- ✓ آپ کو مندرجہ ذیل معاونی دستاویزات کے ساتھ پاسپورٹ دفتر میں جانا ہوگا:
  - ای میل کا متن پرنٹ شدہ
  - ای میل میں منسلک فائل جو ہدایات کے ساتھ آپ کو بھیجی گئی تھی
  - رہائشی اجازت نامہ جو آپ کے پاس ہے یا آپ کے رہائشی اجازت نامے کے چوری ہونے یا گم ہونے کی صورت میں پولیس رپورٹ
  - دو (2) یونانی پاسپورٹ سائز کی حالیہ تصاویر



پاسپورٹ دفتر آپ کو معاونی دستاویزات کے جمع ہونے پر ایک رسید دے گا آپ کو یہ رسید گمانی نہیں ہے کیونکہ اپنے رہائشی اجازت نامے کی وصولی کے وقت اس کی ضرورت ہوگی

4

ضلعی دفاتر یا آزاد یونٹ سے اپنا نیا اجازت نامہ وصول کریں

- ✓ بین الاقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیے آزاد سیاسی پناہ کے یونٹ کی طرف سے ای میل کے جواب میں خاص طور پر یہ بھی ہوگا کہ رہائشی جگہ کی بنیاد پر آپ کو کس مخصوص ضلعی دفتر (یا آزاد سیاسی پناہ کے یونٹ) میں جا کر اپنا رہائشی اجازت نامہ وصول کرنا ہے
- ✓ یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ کا رہائشی اجازت نامہ تجدید ہو گیا ہے اور اسے وصول کرنے کے لیے آپ کو سیاسی پناہ کے تجدید شدہ رہائشی اجازت ناموں کے اعلانات کو دیکھنا ہوگا آپ اپنے پہلے رہائشی اجازت نامے کے نمبر کے ذریعے سے تجدید شدہ رہائشی اجازت نامے کو تلاش کریں گے
- ✓ آپ کے رہائشی اجازت نامے پر مشتمل اعلان میں دن اور وقت کی نشاندہی کی جائے گی کہ کب آپ کو رہائشی اجازت نامہ وصول کرنے کے لیے آنا ہے۔
- ✓ آپ کو لازمی طور پر مخصوص دن اور وقت پر پہنچنا ہوگا جیسا کہ رہائشی اجازت نامے کو وصول کرنے کے اعلان میں کہا گیا ہے۔
- ✓ اپنا رہائشی اجازت نامہ لینے کے لیے آپ کو خود آنا ہوگا اور آپ کسی اور کو وصول کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔
- ✓ اپنا رہائشی اجازت نامہ لینے کے لیے ضلعی دفتر میں ماسک پہننا لازمی ہے



جب آپ اپنا نیا رہائشی اجازت نامہ لینے جاتے ہیں تو مندرجہ ذیل کا ساتھ ہونا ضروری ہے:



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

- ☑ آپ کا پرانا رہائشی اجازت نامہ جو آپ جمع کروا دیں گے
- ☑ اگر آپ گما چکے ہیں یا آپ کا رہائشی اجازت نامہ چوری ہو گیا ہے تو آپ کے پاس پولیس کی کوئی متعلقہ رپورٹ ہونا ضروری ہے
- ☑ کاغذی ثبوت جو پاسپورٹ دفتر نے معاونی دستاویزات جمع کروانے پر دیا ہے (barcode)